

Tarjuma-Tul-Quran-ul-Majeed - 9th Class Tarjmatul Quran Urdu Medium Chapter 2 Preparation

Q1. -سورۃ طہ کا تعارف اور مضامین تحریر کریں۔

Ans 1: تعارف: سورۃ طہ ان سورتوں میں سے ہے جن کے نام حروف مقطعات پر رکھے گئے ہیں۔ اس سورت کا آغاز حروف مقطعات میں سے طہ سے ہوتا ہے اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ سورۃ طہ کے آٹھ میں سے پانچ رکوعوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بیان فرمائی گئی ہے۔ جن سورتوں کے بارے میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین نے فرمایا کہ یہ میرا قدیم مال اور قیمتی اثاثہ ہیں ان میں سے ایک سورۃ طہ بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے واقعہ میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ جب وہ اپنی بہن کے گھر تشریف لے گئے اور انہوں نے اپنی بہن سے سورۃ طہ کی تلاوت سنی تو ان کے دل میں اسلام گھر کر گیا اور انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔

Ans 2: مضامین: سورۃ طہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے تین مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ 1- حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے مدین ہجرت فرمانے تک 2- مدین سے صحرائے سینا کی طرف ہجرت 3- صحرائے سینا ہجرت کے بعد س دو وصال تک کا دور۔ آخر کے تین رکوعوں میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں اور صفات کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مختصر تذکرہ ہے۔ آخرت میں نافرمانوں کے برے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ طہ کے آخر میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ کسی قوم کو اس کے کفر اور انکار پر فوراً نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دیتا ہے۔ اس لیے حق والوں کو صبر کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے اور حق کا انکار کرنے والوں کے معاملے میں جلد بازی اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔

Q2. ترجمہ کریں۔ رب زدنی علما۔

Ans 1: -اے مرے رب! مجھے علم میں اور ترقی عطا فرما۔

Q3. -سورہ طہ کو طہ کا نام کیوں رکھا گیا۔

Ans 1: سورہ طہ ان سورتوں میں سے ہے جن کے نام حروف مقطعات پر رکھے گئے ہیں۔ اس سورت کا آغاز حروف مقطعات میں سے طہ سے ہوتا ہے اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔

Q4. ترجمہ کریں۔ واحلل عقدة من لساني ه يقفها قولي ه

Ans 1: اور میری زبان کی گرد کھول دے۔ تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں

Q5. -سورہ طہ کون سی سورت ہے اور اس میں کتنی آیات ہیں۔

Ans 1: -سورہ طہ مکی سورت ہے۔ اس میں اس ایک سو پینتیس آیات ہیں۔

Q6. ترجمہ کریں۔ رب اشرح لی صدري ه و يسر لي امري ه

Ans 1: -اے میرے رب! میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دے۔

Q7. -سورہ طہ کے دو علمی و عملی نکات بیان کریں۔

Ans 1: سورہ طہ کا مطالعہ کرنے سے جو علمی و عملی نکات معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ 1- اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا مکمل علم ہے دنیا میں کوئی چیز اس

-سے چھپی ہوئی نہیں 2- دنیا اور آخرت کی سلامتی ان کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کریں

Q8. انک کنتینا بصیرا، ترجمہ کریں

Ans 1: بے شک و بے خوب دیکھنے والا ہے

Q9. ترجمہ کریں۔ یقفہوا قولی

Ans 1: تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں

Q10. الفاظ معنی لکھیں۔ صدری - احلل - اخی - ازری - نسبحک - مرۃ اخری - اشرح - یسر - لسانی - اشدہ - بصیر - مننا

Ans 1: صدری - میرا سینہ احلل - کھول دے اخی - میرا ابھائی ازری - میری کمر نسبحک - ہم تیری تسبیح بیان کریں - مرۃ اخری - ایک مرتبہ اور بھی اشرح - کھول دے یسر - لسانی - آسان کر دے - لسانی - میری زبان اشدہ - مضبوط کر دے - بصیر - خوب دیکھنے والا - مننا - ہم نے احسان کیا